

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
نئی دہلی
پریس ریلیز
29 ستمبر 2020

جامعہ ملیہ اسلامیہ نے "کووڈ 19 - تشخیص اور کلینیکل مینجمنٹ" پر ویبنار کا اہتمام کیا

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سینٹر فار انٹرنیشنل ڈسپلینری ریسرچ بیسک سائنسز (سی آئی آر بی ایس سی) نے 26 ستمبر 2020 کو "کووڈ 19: تشخیص اور کلینیکل مینجمنٹ" پر ایک ویبنار کا اہتمام کیا۔

پروفیسر شوبھا بروور (ایمریٹس پروفیسر ، فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز ، ایس جی ٹی یونیورسٹی ، گڑگاؤں) اور ڈاکٹر شیوتا بنسل (کنسلٹنٹ ، پلمونری میڈیسن ، پلیو مینری میڈیسن ، کریٹیکل کیئر سلیپ میڈیسن ای آئی ایم ایچ اے این ایس نائیٹی ملٹی اسپیشلیٹی اسپتال ، نئی دہلی) بطور اسپیکر شریک تھے۔

پروفیسر بروور نے کووڈ-19 کے لئے دستیاب تشخیصی طریقوں پر جائزہ پیش کیا جس میں ریئل ٹائم پی سی آر ، سیرولوجی اور اینٹیجین کا پتہ لگانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ، انہوں نے اس انفیکشن سے متعلق عمومی تاثر اور حقائق پر بھی معلومات فراہم کی۔

دوسرے اسپیکر شیوتا بنسل نے اس بیماری کے کلینیکل پہلوؤں پر روشنی ڈالی جس میں ہلکے ، شدید اور انتہائی سنگین کیسیسز شامل ہیں ساتھ ہی انہوں نے کووڈ 19 مریضوں کے لئے موجودہ ٹریٹمنٹ پروٹوکول پر زور دیا جس میں اینٹی ویرل ادویات ، اسٹیرائڈز ، اینٹی سوزش دوائیاں ، اینٹی کوکلیکٹس ، پلازما تھراپی اور سپلیمنٹس وغیرہ شامل ہیں۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے ایسی سرگرمیوں کی اہمیت پر زور دیا جس میں صحت سے متعلق پہلوؤں اور کووڈ 19 سے متعلق آگہی کے بارے میں مکالمے موجودہ منظر نامے میں انتہائی اہم ہیں۔

انہوں نے صحت کی دیکھ بھال میں کووڈ 19 پر خصوصی تحقیق کرنے کی ضرورت کا بھی اظہار کیا اور کیا جب ہم ایسا کریں گے تبھی ہندوستان آتم نربہر بنے گا۔

احمد عظیم
پی آر او-میڈیا کوآرڈینیٹر